

سوال

پہلے اضافہ 798

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ظاصحاب کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے علم و عمل میں اضافہ ہو جائے اور روحانی و قلبی سکون حاصل ہو۔ اور میرے حالات بھی سدھر جائیں اور میں دوسروں کی حق تلفی بھی چھوڑ دوں۔ (ایک سائل، نیویارک، امریکہ)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد!

آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ قرآن مجید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، عمدة الاحکام، اللؤلؤ والمرجان اور ریاض الصالحین یا ترجمہ انجریزی یا اردو جو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہوں کہیں سے حاصل کر لیں اور روزانہ باقاعدگی سے ان کا مطالعہ کریں ان شاء اللہ الرحمن آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہو گا نیز قلبی و روحانی سکون آپ کو ملے گا۔

پاس مطالعہ کو اپنی ذمہ داری قرار دے لیں اس طرح آپ دوسروں کی حق تلفی بھی چھوڑیں گے اور آپ کی طبیعت میں ایک قسم کی نشاط پیدا ہوگی۔ ان شاء اللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَآمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ كَلِمٰتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَعَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللّٰهَ فَتَرْجِعُوْنَ اِلَيْهِمْ) [الحجہ: ۱۰]

۔ ۱۰۳، ۱۰۳۱ھ

[قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل](#)

جلد 02 ص 798

محدث فتویٰ